

14 مارچ 2018

برامپٹن کے اسپورٹس ہال آف فیم میں چار نئے اراکین شامل کیے جائیں گے

برامپٹن، آن – 2018 میں برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم میں چار نئے اراکین رکھے جائیں گے۔

بلڈر کے زمرے میں، پاور لفٹر ہرنیک سنگھ رائے کو اس کھیل میں بطور حریف، منتظم، کوچ اور ریفری، ان کی شاندار خدمات کی بناء پر شامل کیا جائے گا۔ روز میری ملر کو برامپٹن میں ٹینس کے لیے وقف کردہ اپنے کئی سالوں اور 65+ کھیلوں کو فروغ دینے میں ان کی قیادت کے اعتراف میں، بلڈر کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ باکی، بشمول NHL میں 16 سال کے کیریئر کے لیے، ایتھلیٹ کے زمرے میں مائیک ویور کی خدمات کا اعتراف کیا جائے گا۔ رچرڈ سوس کو ایک شوقین اور پیشہ وارانہ باکسر کے طور پر ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں ایک ایتھلیٹ کے طور پر ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا۔

38ویں اینونل برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم انڈکشن سیریمونی بروز منگل مورخہ 15 مئی کو روز تھیٹر برامپٹن میں منعقد ہو گی۔ ایک کوکٹیل ڈنر شام 6 بجے شروع ہو گا جس کے بعد تقرری کی تقریب اور استقبال ہو گا۔ اس سال کی تقریب کے لیے کلیدی مقرر سابقہ CFL کوارٹر بیک اور چار مرتبہ گرے کیمپ کے چیمپیئن رہنے والے، ڈیمون ایلن ہوں گے۔

روز تھیٹر باکس آفس میں \$55 فی ٹکٹ کی قیمت میں ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔ 12 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ٹکٹوں کی قیمت \$27.50 ہے اور دو سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ مفت ہے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے www.rosetheatre.ca ملاحظہ فرمائیں یا 905.874.2800 پر کال کریں۔

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم اور اس سال شامل کیے جانے والے لوگوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے، برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کی ویب سائٹ www.brampton.ca/bshf ملاحظہ فرمائیں۔

کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، جس نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟ [2019 کے لیے نامزدگی فارم ڈاؤن لوڈ کریں!](#) اگلے سال کی تقرریوں کے لیے نامزدگیاں مورخہ 15 جون 2018 تک قبول کی جائیں گی۔

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کو 1979 میں، کھیلوں کے لیے باعزم جوشیلے افراد نے، سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ یہ اسٹیلز ایویونیو کے جنوب میں موجود کینیڈی روڈ پر پورٹ سنٹر میں واقع ہے۔

اقتباسات:

"برامپٹن اس سال کے اسپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیے جانے والے افراد پر بے حد فخر کر سکتا ہے۔ متعلقہ کھیلوں میں ان کے کردار کو اس شہر اور پوری دنیا میں محسوس کیا گیا ہے۔ کونسل اور برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی کی جانب سے، ہم ان کی کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

"جیسا کہ پر کوئی دیکھ سکتا ہے، 2018 کی کلاس کئی مختلف کھیلوں کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ تمام لوگ اس اعلیٰ اعزاز کو موصول کرنے کے لیے مکمل طور پر اہل ہیں۔ جب وہ ماضی میں تقرر کیے گئے دیگر تمام لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ لیں گے، تو ان نئے لوگوں کو خوش آمدید کہنا ہمارے لیے باعث مسرت ہو گا،"۔

- ڈین مک لیوڈ، چیئر آف برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرٹن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654